



Soneri Bank

SBL/Secy/PSX/23/92
31 March 2023

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Form 10
Through PUCARS & hand delivery

Subject: Disbursement of Final Cash Dividend (D-14) through Electronic Mode

Dear Sir,

We are pleased to inform you that net amount of Final Cash Dividend (D-14) at Re. 1/- per share i.e. @10% for the year ended 31.12.2022, as approved by the shareholders in their 31st Annual General Meeting convened on 27 March 2023, has been processed to be credited by close of business on 31 March 2023 through electronic mode directly into the designated bank accounts of the shareholders, who have submitted their Computerized National Identity Cards ("CNIC") and valid International Bank Account Numbers ("IBANs")

Further, dividend amount has been withheld of those Shareholders who did not provide CNICs and valid IBAN details in compliance of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 and Section 242 of the Companies Act, 2017.

In this respect, we intend to publish Notices in Business Recorder & Daily Nawa-e-Waqt (combined editions Karachi, Lahore and Islamabad) on Monday, 03 April 2023. A copy of such Notices is attached in compliance of Regulation No. 5.6.9 of the PSX Regulations that requires prior transmission.

Please circulate the same among the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,



Muhammad Altaf Butt
Company Secretary

Encls: As stated above

Copy to:-

The Director/HOD,
The Surveillance Supervision and Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue,
Blue Area
Islamabad.

By Hand delivery



Soneri Bank

Credit of Final Cash Dividend (D-14)

We are pleased to inform our shareholders that the 10% Final Cash Dividend (D-14) i.e. Re. 1 per share for the year ended 31 December 2022, approved at the 31st Annual General Meeting of the Bank held on 27 March 2023 has been credited on 31st March 2023 through electronic mode directly into the designated bank accounts of the shareholders, who have submitted their Computerised National Identity Card ("CNICs") and valid International Bank Account Numbers ("IBANs").

Further, in compliance with the requirements of Section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, the Bank has withheld dividends of those shareholders who have not provided valid CNICs and valid IBANs or furnished incomplete/incorrect bank account details. In this respect complete detail of shareholders, who have been given credit of the dividend amount or where CNICs/IBANs were not provided or incorrect/invalid information was provided, may be found in the link given below:

<https://www.soneribank.com/about-us/investor-relations/shareholders-information/>

In order to receive the cash dividend withheld by the Bank as stated above, shareholders are requested to contact the Bank's Share Registrar at the below-mentioned address during business hours or Participant/Investor Account Services of Central Depository Company of Pakistan Limited (as the case may be) along with a legible copy of their respective valid CNIC and provide complete bank account details including valid IBAN by filling the form available on the Bank's website link:

https://www.soneribank.com/wp-content/uploads/2020/03/Mandate_Form.pdf

THK Associates (Private) Limited
Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2
D.H.A, Phase-7, Karachi – 75500, UAN: 021-111-000-322

Muhammad Altaf Butt
Company Secretary

Dated: 03 April 2023
Karachi

12x2



Soneri Bank

حتمی تقدیمت منفع منقسمہ (D-14) کی ادائیگی

ہم نہایت مسرت کے ساتھ اپنے حصص داران کو مطلع کر رہے ہیں کہ 10 فیصد حتمی تقدیمت منفع (D-14) یعنی 1 روپیہ فی حصص برائے سال 31 دسمبر 2022 جس کی منظوری بینک کے آئینہ سوس (31) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 مارچ 2023 میں دی گئی تھی، بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار براہ راست اُن حصص داران کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں 31 مارچ 2023 کو جمع کروادیا گیا ہے جنہوں نے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اور کارآمد انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبرز (IBANs) مہیا کئے تھے۔

مزید یہ کہ کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 اور کینیڈا (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کی شرائط پر عملدرآمد کرتے ہوئے بینک نے ان حصص داران کا منافع منقسمہ روک لیا ہے جنہوں نے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اور کارآمد IBANs فراہم نہیں کیے ہیں یا غلط/ناکمل بینک اکاؤنٹ تفصیلات فراہم کی ہیں۔ اس حوالے سے وہ حصص داران جنہیں منافع منقسمہ کی ادائیگی کر دی گئی ہے یا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/IBANs مہیا نہیں کئے گئے ہیں یا غلط/ناکمل معلومات فراہم کی ہیں، اُن کی مکمل تفصیل مندرجہ ذیل لنک پر مہیا کر دی گئی ہے۔
<https://www.soneribank.com/about-us/investor-relations/shareholders-information/>

بینک کے پاس روکے گئے تقدیمت منفع منقسمہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، مکی وصولی کی غرض سے حصص داران سے التماس ہے کہ کاروباری اوقات کے دوران بینک کے شیئر رجسٹرار سے درج ذیل سچے/پارٹیشنڈ/سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کی انویسٹرا کاؤنٹ سرورسز (جیسی بھی صورت ہو) کو اپنے متعلقہ CNIC کی واضح اور کارآمد نقل، بینک کی مکمل تفصیلات بشمول کارآمد IBANs فراہم کریں اور ذیل میں درج بینک کی ویب سائٹ لنک پر دستیاب فارم کو مکمل کر کے ارسال کریں۔

https://www.soneribank.com/wp-content/uploads/2020/03/Mandate_Form.pdf

ٹی ایچ کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پلاٹ نمبر C-32، جاکو کرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ ایس، فیر-7، کراچی-75500،

یو ایس این: 021-111-000-322

مورخہ: 03 اپریل 2023

کراچی

محمد طاہر بیٹ

کمپنی سیکریٹری

12x2